

سرمایہ، کام کے آلات اور کام کرنے والوں سے مربوط بعض احکام

<"xml encoding="UTF-8?">

سرمایہ، کام کے آلات اور کام کرنے والوں سے مربوط بعض احکام

مسئلہ 2331: کام اور تجارت کا سرمایہ جسے بازاریوں کے عرف میں متغیر سرمایہ کہا جاتا ہے دو طرح کا ہے:

الف: بنیادی سرمایہ جو کم از کم سرمایہ ہے کہ جس کی ضرورت انسان اپنی زندگی کو چلانے کے لیے جو اس کی اور اس کے اہل و عیال کی شان کے مناسب ہو، رکھتا ہے کہ اگر اس سے کم ہو تو اس کے لیے اپنے اور اپنے اہل و عیال کی شان کے مناسب زندگی گزارنا نا ممکن یا حد سے زیادہ سختی کا باعث ہو جو معمولاً قابلِ تحمل نہیں ہے اور مجبور ہو جائے گا ایسا کام کرے جو اس کی شان کے مناسب نہیں ہے۔

تو یہ بنیادی سرمایہ اگر سال کی درآمد سے مہیا کیا ہو نہ مخمس مال سے یا اس مال سے جو حکم مخمس میں ہے تو لازم ہے کہ اس کا خمس ادا کرے مگر ایک صورت میں کہ اگر انسان اس مال کا خمس حال یا آئندہ نزدیک میں گر چہ مصالحہ کر کے قسطی طور پر بھی ادا کرے تو اس کے لیے اپنی شان کے مطابق بہ طور معمول زندگی گزارنا غیر ممکن ہو یا اتنی سختی کا باعث ہو کہ انسان مجبور ہو جائے گا ایسا کام کرے جو اس کی شان کے مناسب نہ ہو تو اس صورت میں سرمایہ کا خمس دینا لازم نہیں ہے البتہ اگر سرمایہ کے کچھ حصے کا خمس نقد یا قسط وار طور پر دے سکتا ہو تو اسی مقدار کا ادا کرنا لازم ہے۔

ب: مال میں وسعت دینے کا سرمایہ جو بنیادی سرمائے سے زیادہ ہے اور اپنی تجارت کو مزید بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

مال میں وسعت دینے کے لیے جو سرمایہ ہے اگر اسے سال کی درآمد سے جمع کیا ہے تو اس کا خمس واجب ہے۔

مسئلہ 2332: کام کے آلات اور وسائل جیسے دوکان، تجارت کی جگہ، نجار (بڑھئی) لوہار، کپڑا بیچنا اور بننا، معماری، کھیتی کے آلات، سامان یا مسافر کے حمل و نقل کے لیے گاڑی اور اس کے مانند چیزیں سرمایہ کسب (کام) کا حکم رکھتی ہیں جو کہ گذشتہ مسئلہ میں بیان ہوا۔

مسئلہ 2333: جانور اور مرغی فارم رکھنے والے افراد جو گائے بھیڑ مرغ اور اس طرح کی چیزیں پالتے ہیں اگر ان کا مقصد ان حیوانات کے پالنے سے ان کے گوشت کا بیچنا ہو تو مذکورہ حیوانات سرمایہ کسب (کام) کا حکم رکھتے ہیں لیکن اگر ان حیوانات کو ان سے حاصل ہونے والی چیزوں سے استفادہ اور درآمد حاصل کرنے کے لیے جیسے دودھ، اون، انڈا وغیرہ پر ورش دے رہا ہو تو یہ چیزیں کام کے آلات اور درآمد کے حکم میں شمار کی جائیں گی۔

مسئلہ 2334: وہ رقم جسے کرایہ دار دوکانوں اور تجارت کی جگہ کی سر قفلی (پگڑی) کے عنوان سے مالک یا غیر مالک کو دیتا ہے اور اس مال کے مقابل میں اس مکان میں ایک حق اسے حاصل ہوتا ہے کہ وہ حق مالی قیمت

رکھتا ہے تو وہ مال کرایہ دار کے لیے سرمایہ اور آلات کسب (کام) کے حکم میں ہے کہ جس کا حکم گذشتہ مسائل میں بیان کیا گیا ہے۔

مسئلہ 2335: اگر انسان کے خمس کی تاریخ آجائے اور کھیتی کی کچھ فصل آمادہ ہو اور کچھ آمادہ نہ ہو جو کھیتی آمادہ ہو وہ اس سال کی درآمد میں سے شمار ہوگی ، چنانچہ سال کے آخر تک اخراجات زندگی میں خرچ نہ ہو تو اس پر خمس واجب ہے، اور جو بعد کے سال میں آمادہ ہوگی وہ اگلے سال کی درآمد میں شمار ہوگی البتہ وہ فصل جو آئندہ سال میں کاٹی جائے جب کہ خمس کی تاریخ پر آمادہ ہو اور موجود ہو اور مالی قیمت رکھتی ہو گرچہ ابھی کچی ہو تو ان کی حال کی قیمت اس سال کے درآمد میں شمار ہوگی اور اس پر خمس واجب ہے۔